

23. Haram bagi udi nikeak magea inok-inok udi, anak-anok udi de slawei, sodaro bapok udi de slawei, sodaro inok udi de slawei, anak-anok slawei sadaro udi de smanei, anak slawei kunei sadaro udi de slawei, inok-inok de s'musu udi, sadaro slawei persusuan udi, inok-inok perpuan udi (stuwang), anak-anok perpuan udi lem pemelihar o kunei perpuan de sudo becapua ngen udi, tapi ami udi ati becapua ngen perpuan udi o (sudo udi cem'ei) mako coa beduso udi nikeak ngen si, haram bagi udi perpuan-perpuan anak kanung udi (menatau) kemopoa (nikeak) dwai slawei bersadaro, kecuali de bi terijjai nak maso bel'o, sesungguhnya Allah maha pengapun ngen maha sayang.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣١﴾

JUZ V

24. Haram bagi udi nikeak slawei de ade suami ne, kecuali budok-budok de naik udi. (Allah temtep ukum awei o) sbagai ketetapan-Ne ngen udi. Halal bagi udi seluyen de awei o, yaitu msoa perpuan-perpuan ngen hartu udi utuk nikeak coa utuk zina. Mako perpuan de sudo udi capua nak antaro o, nelel ba tobo ngen tobo o mahar (ngen sempurna) sbagai kwajiban. Coa jano bagi udi magea sesuatu de sudo saling mrelekan, sesudo temtau mahar o, sesungguhnya Allah maha namen ngen maha bijaksano.

۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٢﴾

25. Api si nak antarom udi (tun merdeka) de coa cukup blanjo ne utuk nikeak ngen slawei merdeka de berimen, si buliak si buliak nikeak magea budok-budok de berimen. Allah namen keimanan udi, sebagian udi adeba sebagian de luyen. Kerno o kerno ne nikeak ba ngen tobo o

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ ۖ

ngen izin tun tuai ne, nlei ba mas kawin tobo o ngen tmotoa de patut, sedang tobo o kulo slawei-slawei de jmago dirai, coa pezina coa kulo slawei de mok smanei-smanei de luyen sbagai piaraan ne. Ami tobo o bi jmago dirai ngen nikeak, kemudian tobo o kemrejo uleak kidek (zina) mako untuk tobo o tenggak hukuman, slawei-slawei merdeka de ade suami, ade ba bagai tun-tun de saben ngen kesaro jmago dirai (kunei mnea zina) nak antaro udi, kesabaran o lebiak baik bagi udi, Allah maha pengampun ngen maha penyayang.

أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشَى الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

26. Allah lok tem'ang (hukum syari'at ne) magea udi ngen temunjuk udi magea dalen-dalen tun de ayok udi (Nebai-nebai ngen sholihin) ngen lok temimo tobat udi. Allah Maha namen ngen Maha bijaksana.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

27. Allah lok temimo tobat udi, sedang tun-tun de tmotoa hawa nafsu ne bermaksud supayo udi belek se-uak-uak ne kunei dalen de bnea.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿١٧﴾

28. Allah lok mlei ke'lengan magea udi ngen manusio jenijai bersifet lemuak.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿١٨﴾

29. Hai tun-tun berimen, jibeak ba udi saling muk harto sesamo udi ngen dalen de bathil, kecuali ngen dalen perniagaan de blakau ngen lok samo lok nak antaro udi. Jibeakba udi munuak dirai udi, sesungguak ne Allah maha sayang magea udi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

30. Api mnea awei o ngen mlangea hok ngen aniaya, mako keme sudo yo masukkan si milem nerako, de awei o adeba mudeak bagai Allah.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا ۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾

31. Ami udi me'uak duso-duso lai nak antaro duso-duso de tengeak udi kemrejo ne, pasti keme mapus kesalahan-kesalahan udi (duso-duso de titik) keme masukkan udi moi pnan de mulya (surgo).
 إِنَّ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٦٦﴾
32. Jibeak ba udi iri atei magea jano de nlei Allah magea sbagian udi lbiak dau kunei sbagian de luyen.kerno bagian smanei ade bagian kunei jano usaho ne. Bagai slawei (kulo) ade bagian kunei jano de usaho ne, kinoi ba magea Allah sebagian kunei kurnia Ne. Sesungguak ne Allah Maha namen kute sesuatu.
 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٧﴾
33. Bagai tip-tip harto pningea kunei harto de teningea inok bapok, karib kerabat, keme jemijai pewaris ne. Ami ade tun-tun de udi sudo supeak setia ngen tobo o, mako klei ba tobo o bagian ne, sesungguak ne Allah seksai kute sesuatu.
 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتَاهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٦٨﴾
34. Smanei (suami) o, pelindung bagai slawei kerno Allah bi mlebiak bagian tobo o (smanei) dan bagian de luyen, dan kerno smanei bi mlei nafkah ngen harto ne mako slawei-slawei de sholeh, ade ba tobo o de taat (magea Allah ngen jmago dirai swaktau suami ne coa gen, kerno Allah bi jmago. Slawei-slawei de udi khawatir -kan bakea nuzuz, mako ne udi mlei nasehat ngen tobo o, tningea ba tobo o nak pnan tidua (ce'i ranjang) kalau perlu nlipai ba tobo o, tapi ami tobo o taat ngen udi, mako jibeak ba udi msoa-msoa alasan utuk smaro si, sesungguak ne Allah Maha lekat ngen Maha lai.
 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٩﴾
35. Ami udi khawtir terjijai gaduak antaro kedwai ne, mako nebo ba tun utuk dmamoi kunei kawargo smanei ngen do tukang dmamoi kunei kwargo slawei, ami kedwai ne (tukang demamoi o) bermaksud made de baik, pasti Allah mlei kemudeak magea suami-istri, sesungguak ne Allah Maha namen, maha teliti.
 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُتُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٧٠﴾

36. Sembeak ba Allah ngen jibeak udi membanding-Ne ngen jano pun, ver cao ba de baik magea kedwai tun tuai, karib krabat, anak-anok yatim, tun klasai, tetanggo de paok ngen de uak, kuat sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya de naik udi, sesungguhnya ne Allah coa senang tun de ombong ngen bangga dirai.
- ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٦٦﴾
37. Tun de kisit, ngen mluak tun luyen kisit, munyin kurnia de bi nlei Allah ngen si, keme bi semdiyo utuk tun-tun kafia azab de menghinokan.
- الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٦٧﴾
38. Tun-tun de menginfak harto nne kerno riya ngen tun luyen (lok kenliak ngen nujai) tun-tun de coa berimen magea Allah ngen magea bilai akhirat. Api de jemijai setan ijai kuat ne, mako (namen ba) setan o adeba kuat de kembang jahat.
- وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٦٨﴾
39. Jano kebratan bagai tobo o amen tobo o berimen magea Allah ngen bilai akhir ngen menginfak sebagian rejekai de bi nlei Allah magea si, dan Allah maha namen keadaan tobo o.
- وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٦٩﴾
40. Sungguak Allah coa bakea men-zalimi tun, dan ami ade kebaikan setitik zarah, pasti Allah bakea me-lipetgandakan ngen mlei pahalo de lai kunei isia Ne.
- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾
41. Awei pe ba (keadaan tun kafia sudoyo) ami keme menghaderkan do tun seksai (rasul) kunei tip umat dan keme tenko ko (muhammad) sebagai seksai nak das tobo o.
- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٧١﴾

47. Hai tun-tun de bi nlei kiteb, berimen ba udi magea jano de sudo keme temu'un (al-Qur'an) de mbenea kiteb de ade ngen udi, ayok keme mubeak papea-papea udi, sudo o keme mutea belakang atau keme laknat tobo o awei pe melaknat tun-tun (de mnea maksiat) pado bilai sabat (sabt) ngen ketetapan Allah de pasti blakau.
- يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾
48. Sesungguak ne Allah coa bakea mapun (duso) kerno mempersekut –Ne (syirik). Allah mapun jano (duso) seluyen syirik bagai api de kenlok-Ne. Api mempersekut Allah mako sesungguak ne si bi mnea duso de lai.
- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
49. Coakah udi memperhatikan tun-tun de mangep dirai ne sucai (tun yahudi ngen nasrani) sebnea ne Allah mensucaikan api de kenlok –Ne, tobo o coa dizalimi didik pun.
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾
50. Perhatikan ba, awei pe tobo o mnea tipu daya magea Allah cukup ba uleak o jijai duso de nyato.
- أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾
51. Coakah udi perhatian tun-tun de nlei bagian kunei kiteb (taurat) tobo o cayo magea jin ngen thagut dan madeak magea tun kafia (musyrik mekeak) bahwa tobo o lbiak bnea dalen ne kunei tun-tun de berimen.
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحَجَبِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾
52. Tobo o ba tun-tun de nlaknat Allah, api de nlaknat Allah udi pasti coa bakea dapet pnulung bagai ne.
- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾
53. Ataukah udi maik bagian kunei kerajaan, meskipun udi coa bakea mlei didik pun (kebaik) magea manusio.
- أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَلِكِ إِذَا لَأ يُوْتُونَ النَّاسَ نَفِيرًا ﴿٥٣﴾

54. Ataukah tobo o deki magea manusio (muhammad) kerno kurnia de bi nlei Allah ngen si? Sungguak, keme bi mlei kiteb ngen hikmah magea kwargo Ibrahim, keme bi mlei magea tobo o kerajaan de lai.
- أَمْرٌ يُحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾
55. Mako nak antaro tobo o (de deki) ade de berimen ngen si ade kulo de menghalang (manusio berimen) ngen si, cukup ba (bagai tobo o) nerako jahannam de nyalok-nyalok opi ne.
- فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ نَجْمَهُمْ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾
56. Sungguak tun-tun de kafia magea ayat-ayat keme, sudo yo keme masuk si milem nerako, tip kilai babok ne angus, keme gemitei ngen babok de luyen, supayo tobo o meraso azab, sungguak Allah Maha perkaso Maha bijaksana.
- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كَلَّمًا ۚ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾
57. Adepun tun-tun de berimen ngen kemrejo keabikan, sudo yo keme masuk si milem surgo de mengalua sungai-sungai kabeak ne, tobo o btea lem o slamo-lamo ne, nak o tobo o ade pasangan-pasangan de sucai, keme masukkan tobo o moi pnan de klin'duak ngen nyaman.
- وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾
58. Sungguak Allah mluak udi smapei amanat magea de berhok temimo ne, dan ami udi temtep hukum nak antaro manusio mako udi, temtep ne ngen adea, sungguak Allah sebaik-baik de mlei pengajaran magea udi. Sungguak Allah Maha temi'uk Maha mengeliak.
- ﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
59. Hai tun-tun de berimen taat ba magea Allah ngen Rasul (Muhammad) ngen ulil amri (pemegang kuaso) nak antaro udi, kemudian ami udi beda pendapat tentang sesuatu, mako belek ba magea Allah ngen rasul-Ne, ami udi berimen magea Allah ngen bilai sudo yo. De awei o lbeik utamo (bagai udi) dan lebiak baik akibat ne.
- يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

60. Coakah ko (Muhammad) memperhatikan tunh-tun de mengakau bahwa tobo o bi berimen magea jano de bi tenu'un magea ko, ngen de ayok un? Tapi tobo o masiak kemlok ketetapan ukum magea taghut, padahal tobo o bi nriteak utuk mengikar (mengike) taghut o, setan bermaksud menyesatkan tobo o ngen kesesat de se uak-uak ne.
61. Ami nadeak magea tobo o "maroba" patuh magea jano de bi tenu'un Allah patuh ba magea Rasul, pasti ko (Muhammad) kemliak tun munafik menghalang ngen kras kunei un.
62. Mako awei pe hal ne, ami sudoyo musiba temipo tobo o (tun munafik) sbab jawet tangan ne dewek. Sudo o tobo meneko magea Muhammad samo bersupeak-supeak" demi Allah keme sesekilai coa kemlok seluyen kebaikan ngen kedamoi.
63. Tobo o ade ba tun-tun de (sungguak) Allah namen jano de ade lem atei ne. Kerno o paling ba udi kunei tobo o, nlei ba nasehat, nadeak ba magea tobo o kecek de mbekes moi jiwo ne.
64. Keme coa mutus (mbo) do Rasul seluyen untuk ditaati ngen izin Allah, ngen sungguak sekiro ne tobo o sudo menzalimi dirai ne, meneko magea ko (Muhammad) sudo o kinoi apun magea Allah, Rasul pun kinoi apun utuk tobo o, pasti tobo o dapet Allah de Maha temimo tobat, Maha penyayang.
65. Mako demi tuhan un, tobo o coa berimen ayok tobo o mnea ko (Muhammad) ijai hakim lem perkaro de tobo o selisiakan sudo o coa gen asai kebratan lem atei tobo o magea putusan de nlei un. Tobo o temimo ngen sepuak ne.
- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾
- فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾
- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾
- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾
- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

66. Sekilaipun pun sudo keme mriteak magea tobo o nunuak ba dirai udi atau kelwea ba kunei sadei udi, ternyato tobo o coa mnea ne, kecuali sebagian didik kunei tobo o. Sekoro ne tobo o bnea-bnea melaksano priteak de bi nlei, pasti do o lebiak baik bagai tobo o ngen lebiak baik menguet (imen tobo o).
- وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اقْتُلُوا مِنْ دَيْرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾
67. Ngen awei o, pasti keme mlei magea tobo o pahalo de lai kunei keme.
- وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾
68. Dan pasti keme temunjuk magea tobo o dalen de lu'us.
- وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾
69. Api de mentaati Allah ngen Rasul (Muhammad) mako tobo o bakea samo-samo ngen tun de nlei nikamt kunei Allah, para Nebai, pciti kebenea, tun-tun de matei syahid tun-tun saleh, tobo o ba kuat de sebaik-baik ne.
- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾
70. De awei o ade ba kurnia kunei Allah, cukup ba Allah Maha namen.
- ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾
71. Hai tun-tun berimen, bersiap-siap ba udi, ngen maju ba (moi medan perang) se ca'o berklopok, atau maju ba samo-samo (spok).
- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾
72. Sesungguak ne nak antaro udi pasti ade tun de kembang segan (malas) moi medan perang, ijai udi tenipo musibah si madeak, sungguak Allah bi mlei nikmat ngen uku kerno uku coa milau perang samo-samo tobo o.
- وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْغِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِدًا ﴿٧٢﴾
73. Sungguak, ami udi dapet kurnia (menang) kunei Allah pasti ba si madeak seakan-akan ati pernah ade hubungan kasiak sayang antaro udi ngen si. Hai sekiro ne uku bersamo tobo o, pasti uku bakea dapet kemenangan de agung (kulo).
- وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِغْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

74. Kerno o, baik ne tun-tun de jemuoa kehidupan denio utuk (kehidupan) akhirat perang nak dalen Allah. Api si de perang nak dalen Allah, lajau gugur atau dapet kemenangan mako bakea keme mlei pahalo de lai ngen si.
- ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾
75. Gemne udi coa lok perang nak dalen Allah ngen mbela tun lemuak, baik smanei, slawei maupun anak-anok de berduo “ya Tuhan keme, kenluwea ba keme kunei negrai yo (Mekeak) de penduduk ne zalim. Nlei ba keme pelindung kunei isia Un (Allah), nlei ba keme petulung.
- ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾
76. Tun-tun de berimen tobo o perang nak dalen Allah dan tun-tun de kafia perang nak dalen taghut, mako senrang ba kuat-kuat setan o, kerno sesungguak ne tipu dayo setan o lemuak.
- ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾
77. Coakah udi perhatikan tun-tun de nadeak ngen tobo o: tena'en ba tengen un (kunei perang) ten gok ba semyang, ngen kenluwea ba zakat, sesudo n'wajibkan magea tobo o berperang, tibo-tibo sebagian kunei tobo o (golongan munafik) saben magea manusio (musuak) awei saben magea Allah, bahkan lbiak kunei o saben ne. Tobo o madeak ya Tuhan keme, gemne ko mewajibkan perang ngen keme? Gemne coa ko me'dan (kewajiban perang) magea keme beberapo waktau igai, kadeak ba : kesenangan nak denio yo hanya tegoa, akherat o lebiak utuk tun-tun de bertakwa dan udi coa bakea denayo didikpun.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَامَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تَحْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

78. Nak ipe bae udi ade, kematei bakea demapet udi, walaupun udi nak lem benteng de lekat ngen kukuak. Ami tobo o dapet kebakan tobo o madeak dio ade ba kunei Allah, kalau tobo o tenipo suatu musibah tobo o madeak dio (keneko ne) kunei udi (Muhammad). Kadeak ba “kute ne kunei Allah mako gemne tun-tun o (tun munafik) gesea coa paham nadeak didikpun.
- أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾
79. Jano bae nikmat de udi dapet adeba kunei Allah dan jano bae bencano de tempio udi, mako kunei (kesaleak) dirai udi dewek. Keme mutus ko ijai Rasul magea segenep manusio dan cukupba Allah ijai seksai.
- مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾
80. Api de mentaati Rasul o, sesungguhnya ne si bi taat ngen Allah, api de tbelek (kunei taat o) mako keme coa mutus ko utuk jijai pemeliharao bagai tobo o.
- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾
81. Tobo o (tun munafik) madeak ; kewajiban keme hanya ba) taat, tapi amen tobo o bi lalau kunei isia un , sebagian kunei tobo o mnea siasat kelmen (mok keputusan) luyen kunei de sudo tobo o madeak nano. Allah temulis siasat de natur tobo o kelmen ‘o. Mako belek ba udi kunei tobo o dan bertakwa ba magea Allah. Cukup ba Allah jijai pelindung.
- وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾
82. Mako janokah tobo o coa mekerkan al-Qur’an : kalau kiro ne al-Qur’an o coa kunei Allah, tentu ba tobo o dapet pertentangan de dau lem ne.
- أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾
83. Apabilo m’neko magea tobo o suatu berita tentang keamanan ataupun kesaben, tobo o semyar ne, dan kalau tobo o semreak ne magea Rasul ngen ulil amri nak antaro tobo o, tentu ba tun-tun de lok namen kebenea (bakea dapet)
- وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

<p>namen kunei tobo o (rasul ngen ulil amri) kalau coa ba kerno kurnia ngen rahmat Allah ngen udi, tentu ba udi temotoa setan, kecuali sebagian didik bae nak antaro udi.</p>	<p>وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٧﴾</p>
<p>84. Mako berperang ba udi nak dalen Allah, coa ba udi nlei ban seluyen kunei kewajiban udi dewek, knobarba semangat tun berimen (utuk perang) supayo Allah temulok serangan tun-tun kafia o. Allah lebiak lai kekuatan ngen lebiak keras sikso (ne).</p>	<p>فَقَنَيْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۖ وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٤٨﴾</p>
<p>85. Api de mlei syafaat de baik, pasti si bakea dapet bagian pahalo kunei ne, dan api de mlei syafaat de kidek pasti si bakea mikut bagian duso kunei ne. Allah Maha kuaso das kute-kute ne.</p>	<p>مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٩﴾</p>
<p>86. Apabilo udi dihormati ngen suatu penghormatan mako nales ba penghormatan o ngen lebiak baik atau nales ba ngen serai (samo) sesungguhnya ne Allah mitung kute ne.</p>	<p>وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِمَّا أُرْدُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٥٠﴾</p>
<p>87. Allah coa gen Tuhan (de berhok sen'beak) seluyen Si. Sesungguhnya ne si bakea kmopoa udi nak bilai kiamat, de coa gen keraguan terjijai ne, api ba tun de lbiak bnea kecek ne kunei Allah.</p>	<p>اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٥١﴾</p>
<p>88. Mako gemne udi terpecuak jijai dwai golongan lem madep tun-tun munafik, padahal Allah bi m'belek tobo o moi kafia, kerno usaho tobo o dewek. Janokah udi bermaksud mlei petunjuk magea tun-tun de bi sensat Allah api de bi sensat Allah, sekilai-kilai udi coa dapet dalen utuk mlei dalen petunjuk ngen si.</p>	<p>۞ فَمَا لَكُمْ فِي الْأَنْفِيقِينَ فَفَعْتِ بَ ۗ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَضَلِّ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٥٢﴾</p>
<p>89. Tobo lok, supayo udi jijai kafia awei pe tobo o bi jijai kafia, lajau udi jijai samo (ngen tobo o). Mako jibeak ba udi mnea nak antaro tobo o petulung-petulung udi</p>	<p>وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۗ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ۗ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ</p>

sapei tobo o hijrah moi dalen Allah. Ami tobo o belek ta'en ngen nunuak ba nak ipe bae udi temau si. Jibeak ba udi mok tun nak antaro tobo o jijai pelindung, jibeak kulo ijai ptulung.

تَوَلَّوْا فُحْدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٨﴾

90. Kecuali tun-tun de kinei ptulung kunei suatu kaum, de udi ngen kaum o bi ade janjai damoi, atau tun-tun de mneko magea udi nak atei tobo o mraso bnek utuk semrang udi udi ngen kaum ne, kalau Allah kemlok, tentu ba Si mlei kekuasaan magea tobo o ngen udi, pasti ba tobo o semrang udi. Tapi ami tobo o munyau udi ngen coa semrang udi dan madeak kedamoi ngen udi mako Allah coa mlei dalen megea udi utuk tema'en ngen munuak tobo o.

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٨٩﴾

91. Sudoyo udi bakea dapet (golongan-golongan) de luyen de bermaksud supayo tobo o aman kunei adi aman kulo kunei kaum ne. Tip tobo o najok moi fitnah (syirik) tobo o kulo milau lem ne, kerno ami tobo o coa munyau udi ngen coa lok madeak kedamoi ngen udi, serto coa tema'en tengen tobo o kunei semrang udi, mako tena'en ba ngen kunuak ba tobo o nak ipe bae udi temau, dan tobo o ba tun-tun de nlei keme magea udi alasan de nyato (utuk tema'en ngen munuak).

سَتَجِدُونَ ءآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رُذِّبُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فُحْدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ ؕ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا مُّبِينًا ﴿٩٠﴾

92. Coa layak bagai tun mukmin munuak tun mukmin de luyen, kecuali kerno tersaleak (coa sengajo), api munuak tun mukmin coa tersaleak (mako harus) si mbebas do hamba sahaya be berimen serto mbayar diat de senreak magea kwargo de (tekunuak) kecuali ami tobo o (kwargo de tekunuak) bersedekeak. Ami de terkunuak kunei kaum de musuak ngen udi, padahal si mukmin, mako (denunuak) membebaskan hamba sahaya de mukmin, ami de terkunuak o tun kafia de ade janjai damoi antaro tobo o ngen

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

udi, mako si (pemunuak) m'bayar tebusan de senreak magea kwargo ne. Serto membebaskan hamba sahaya de berimen. Api coa gen hamba sahaya mako si puaso 2 bulen turut-turut, sebagai tobat magea Allah. Allah Maha namen, maka bijaksano.

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

93. Api de munuak tun berimen ngen sengajo, mako bales ne adeba nerako jahannam, si btea lem ne, Allah murka magea si, dan melaknat serto semdiyo azab de lai magea si.

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
﴿١٣﴾

94. Hai tun-tun de berimen, ami udi lalau perang nak dalen Allah, mako teliti ba (nsoa keterangan) jibeak ba udi madeak ngen tun de mucep "salam" magea udi, udi iso tun de berimen (lajau udi munuak si) ngen maksud msoa harto idup nak denio, padahal Allah ade harto de lbiak dau. Awei o kulo keadaan udi bel o, sudo o Allah mlei nikmat ne ngen udi, mako teliti ba. Sesungguak ne Allah Maha teliti jano de udi kemrejo.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ
مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ
مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ
اللَّهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٤﴾

95. Coa ba samo tun berimen de temot (coa milau perang) de coa gen uzur ngen tun de berjihad nak dalen Allah ngen harto jiwo ne, Allah melebiak derajat tun-tun de berjihad ngen harto jiwo ne, das tun-tun de temot, magea masing-masing Allah bejanjai (pahalo) de baik dan Allah mlebiak tun-tun de berjihad kunei tun de temot ngen pahalo de lai.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾

96. (Beberapa derajat) kunei Ne, serto ampunan ngen rahmat, Allah maha pengampun maha penyayang.

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
﴿١٦﴾

97. Sesungguak ne tun-tun de ncabut nyabai ne oleh malaikat, lem keadaan zalimi dirai dewek, ngen tobo o (malaikat) betanye :aweï pe ko yo? Tobo jemawab : “keme tun-tun de tnindas nak bumai (mekeak), malaikat betanye, isokah bumai Allah o luas, sehinggo udi dapet hijrah, mako tun-tun o pnan ne nak nerako jahannam, dan jahannam o sekidek-kidek pnan belek.
- إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمْ لَمَلِكِكُمْ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾
98. Kecuali tobo o de tertindas baik smanei atau slawei ngen anak-anok de coa bedayo ngen coa namen dalen utuk hijrah.
- إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾
99. Mako tobo o mudah-mudahan Allah mlei maaf, Allah maha pemaaf, maha pengampun.
- فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿١٩﴾
100. Api de hijrah nak dalen Allah, pasti tobo o bakea dapetkan bumai Allah pnan hijrah de luas ngen rezkai de dau, api de kelwea kunei umeak ne ngen maksud berhijrah kerno Allah ngen Rasul Ne, sudo o kematei temipo (ayok sapei pnan tujau) mako sungguak pahalone bi tentep Allah, dan Allah maha pengampun Maha penyayang.
- وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآعًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾
101. Ami udi lalau nak bumai Allah mako coa ba beduso udi mengqasar sholat, ami udi saben senrang tun kafia, sesungguak ne tun kafia o adeba musuak de nyato bagai udi.
- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٢١﴾
102. Ami ko (Muhammad) ade nak tengeak-tengeak tobo o (sahabat un) lajau ko kemrejo sholat samo-samo, mako segolongan kunei tobo o je (sholat) besamo ngen ko, sema'dang snatai ne. Sudo o ami tobo o (de sholat samo ngen ko) sujud (bi sempurno do rakaat) mako
- وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتِهِمْ فِإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ

tobo o buliak kunei blakang un. (utuk madep musuak) mako neko ba golongan de luyen utuk sholat samo ngen ko, dan tobo o siap siaga ngen snatai ne, tun-tun kafia minoi udi lengah ngen snatai udi, terus tobo o semrebu udi debat,. Coa bok udi meltok snatai udi, ami udi dapet suatu kesaro kerno ujen atau kerno udi sakit, dan siap siaga ba udi, sesungguhnya ne Allah bi semdiyo azab de menghino bagai tun-tun kafia o.

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٧٢﴾

103. ami udi sudo semleseis sholat, ninget ba Allah waktau tegok, temot, dan guling. Sudo o ami bi mraso aman, mako sholat ba aweis biaso ne, sesungguhnya ne sholat o kewajiban de bi tau waktau ne utuk tun-tun berimen.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٧٣﴾

104. Jibeakba udi min atei lemuak lem jemalang musuak udi, ami udi menderito sakit, mako sungguak pun tobo o meding sakit kulo aweis pe udi menderita ne, sedang udi ma'ep kunei Allah jano de coa tobo o kemlok. Allah Maha namen Maha bijaksano.

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ
فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ
مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٤﴾

105. Sesungguak ne keme bi temu'un kiteb magea udi min kebenea, supayo udi madea antaro manusio ngen de bi Allah wahyukan magea ko, jibeak ba udi jijai penetang (tun de coa saleak) kerno mbela tun de khianat.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿١٧٥﴾

106. Kinoin apun ba magea allah sesungguhnya ne Allah maha peng-ampun Maha penyayang.

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٧٦﴾

107. Jibeak ba udi berdebat (utuk m'bela) tun-tun de khianat dirai ne, sesungguhnya ne Allah coa lok tun-tun de khianat ngen gelimang duso.

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٧٧﴾

108. Tobo o sebunyin kunei manusio tapi tobo o coa sebunyin kunei Allah. Padahal Allah besamo tobo o sewaktau tobo o temtep keputusan rahasio de coa Allah ridhoi, Allah maha meliputi (ilmu ne) jano de kenrejo tobo o.
- يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾
109. Awe yo ba udi, udi kute-kute ne adeba tun-tun de bedebat utuk m'bela tobo o lem denio yo, mako api de bakea m'debat Allah utuk m'bela tobo o nak bilai kiamat. Api de jijai pelindung tobo o (magea sikso Allah).
- هَٰئَانْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿١٠٩﴾
110. Api de kemrejo kejahatan ngen m'nayo dirai ne, sudo o si kinoi apun magea Allah. Pasti si dapet Allah Maha pengapun Maha penyayang
- وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾
111. Api de kemrejo duso, sesungguhnya ne si kemrejo utuk dirai ne dewek. Allah Maha namen Maha bijaksano.
- وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾
112. Api de kemrejo kesaleak atau duso, sudo o temuduak tun de coa saleak, mako si menea mngike ngen duso de nyato.
- وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾
113. Sekiro ne coa kerno kurnia Allah ngen rahmat-Ne magea udi, tentu ba segolongan kunei tobo o lok semsat ko, tapi tobo o coa semsat luyen dirai ne dewek, tobo o coa m'bahayo dirai udi didik pun, kerno Allah bi temu'un kiteb ngen hikmah magea udi, bi majea udi jano de ati udi namen, kurnia Allah kembang lai ngen udi.
- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾
114. Coa gen kebaikan nak bisik-bisik tobo o, kecuali bisik-bisik kunei tun de mluak manusio sedekeak, kemrejo de baik, atau made kedamoi antaro manusio. Api de
- ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ

<p>awei o kerno msoa keridhoan Allah mako sudoyo keme mlei pahala de lai.</p>	<p>ذَٰلِكَ أَجْرَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾</p>
<p>115. Api de temtang Rasul sesudah jelas kebenea ngen si, ngen temtoa dalen de iso si dalen mukmin, mako kunyau ba si leluaso ngen sesat de sudo si kuaso o. Keme mpek si lem jahannam, jahannam o sekidek-kidek pnan belek.</p>	<p>وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾</p>
<p>116. Sesungguak ne Allah coa mapun duso de semamo (sekutu) sesuatu ngen Si, si mapun duso seluyen kunei syirik o, bagai api de kenlok ne. Api de sekutu ngen Allah, mako sesungguak ne si biselat seuak-uak ne.</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾</p>
<p>117. De sembeak luyen Allah o, coa luyen adeba berhalo, tobo o coa luyen hanya sembeak setan de durhako.</p>	<p>إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾</p>
<p>118. Nlaknat Allah dan setan o madeak: “uku bnea-bnea bakea mok hamba-hamba un bagian de sudo tau” (utuk ku)</p>	<p>لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾</p>
<p>119. Uku bnea-bnea bakea mleset tobo o dan bakea kemliak angan-angan kosong tobo o ngen mluak tobo o (motong tiuk-tiuk ternok), terus tobo o bnea-bnea temtok ne, uku mluak mubeak ciptaan Allah tobo o bnea-bnea mubeak ne. Api mnea syetan jijai pelindung seluyen kunei Allah mako sungguak bakea meding kerugai de nyato.</p>	<p>وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْآتَعَمِ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾</p>
<p>120. Syetan-syetan o mlei janjai-janjai ngen tobo o ngen kem-nek angan-angan kosong, padahal syetan coa bejanjai ngen tobo o sluyen kunei tipu dayo.</p>	<p>يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ ۗ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾</p>

121. Tobo o pnan ne jahannam dan coa gen pnan melilai kunei ne. أُولَئِكَ مَاؤُنْهَمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا حَيْصًا ﴿١٢١﴾
122. Tun-tun berimen ngen kemrejo amea saleh, sudoyo bakea keme mpek moi lem sergo de mngalua sungai-sungai lem ne, tobo o btea lem slamo-lamo ne. Allah bi mnea janjai de bnea, api de bnea kecek ne kunei Allah.? وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾
123. Pahalo kunei Allah isoba temotoa ngan-angan kosong udi, coa kulo temotoa angan-angan ahli kiteb, api de kemrejo jahat, pasti nlei bales ngen jahat o dan si coa dapet pelindung coa kulo petulung bagai ne seluyen kunei Allah. لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾
124. Api kemrejo amea-amea saleh baik smanei atau slawei lem berimen, tobo o masuk sergo tobo o kulo coa dinyayo didik pun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾
125. Api de lbiak baik agamo ne kunei tun de ikhlas semreak dirai ne magea Allah, sedang si kule kemrejo kebaikan, si temotoa agamo Ibrahim de lu-us, Allah temimo Ibrahim jijai kesayangan Ne. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾
126. Allah ba tem'uan jano de nak lenget ngen jano de nak bumai, pengetahuan Allah meliputi kute-kute ne. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾
127. Tobo o minoi fatwa kunei un tentang slawei, kadeak ba : “ Allah mlei fatwa ngen udi masalah tobo o, jano de mbaco ngen udi lem al-Qur'an. Tentang slawei yatim de udi coa mlei ngen tobo o jano de bi tentep utuk tobo o, tentang anak-anok de masiak lemuak, Allah mluak udi supayo udi murus anak-anok yatim seca'o وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا

adea, kebaikan jano bae de kenrejo udi, Allah maha namen.

لَلَّيْتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

128. Ami slawei khawtir bakea nuzuz-nuzuz atau sikap coa acuh magea suami ne, mako coa bok bagai kedwai ne made kedamoi de sebenea-benea ne. Kedamoi o lebiak baik walaupun manusio tmotoa tabiat kisit ne. Ami udi begaul ngen istri udi seca'o baik ngen jemago dirai udi kunei nuzuz ngen sikap acuh mako sesungguak ne Allah maha namen jano de udi kemrejo.

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

129. Udi sekilai-kilai coa bakea dapet blakau adea nak antaro istri-istri udi, walaupun udi kembang lok awei o, kerno o jibeak ba udi terlalu cenderung (magea de udi cito) akhirne udi munyau de luyen tekantung-katung. Ami udi made perbaikan ngen jemago dirai (kunei curang) mako sesungguak ne Allah maha pengampun ngen penyayang.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

130. Ami kedwai ne ce'ei, mako Allah mlei kecukupan magea masing-masing ngen limpahan kurnia Ne, Allah maha luas kurnia ne ngen Maha bijaksano.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

131. Allah tem'uan jano de nak lenget ngen nak bumai, keme bi mritreak magea tun-tun de nlei kiteb ayok udi dan ngen ko. Bertakwa ba magea Allah. Tapi ami udi kafia mako namen ba jano de nak lenget ngen nak bumai Maha kayo ngen Maha terpujai.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

132. Allah ba tem'uan jano de nak lenget ngen jano de nak bumai, cukup ba Allah sbagai pemelihar.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

وَكَيْلًا ﴿١٣٢﴾

133. Ami Allah kemlok, pasti si majua kute manusio, ngen tem ko umat de luyen (gitei udi) Allah maha kuaso mnea awei o.
- وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾
 ۞ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۗ
134. Api lok pahalo nak denio bae (mako bakea rugai) kerno Allah ade pahalo denio akhirat. Allah maha temiuk Maha kemliak.
- وَالْآخِرَةُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾
 مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
135. Hai tun-tun berimen jijai ba tun de bnea-bnea temgok keadilan, jijai seksai kerno Allah, magea dirai udi atau Inok Bapok, kerabat udi, ami si kayo atau klasai. Mako Allah lbiak namen kemaslahatanne. Mako jibeak ba udi tmotoa hawa nafsu kerno lok menyipang kunei kebenea. Ami udi mbelek (kecek-kecek) atau coa lok ijai seksai mako sesungguak ne Allah adeba Maha namen kute de kenrejo udi.
- بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٣٥﴾
 ۞ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
136. Hai tun-tun de berimen tep ba berimen magea Allah ngen Rasul ne ngen kiteb de tenu'un Allah magea Rasul Ne, serto kiteb de ayok ne, api kafia magea Allah, malaikat-malaikat ne, kiteb-kiteb ne, rasul-rasul Ne, bilai kiamat, mako sesungguak ne tun o bi mleset seuak-uak ne.
- وَالَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَالَّذِي نَزَّلَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾
 يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَالَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَالَّذِي نَزَّلَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۗ
137. Sesungguakne tun-tun berimen sudo o kafia, sudo o berimen igai, sudo o kafia igai sudo o tambeak kafia ne., mako sekilai-kilai Allah coa bakea mlei ampunan ngen tobo o, coa kulo mlei petunjuk dalen de lu-us.
- سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾
 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَدُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
138. Knabar ba magea tun-tun munafik bahwa tobo o bakea dapet sikso kembang pelgiak.
- بَشِيرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

139. Tun-tun de mok tun kafia jijai kuat-kuat penulung ngen temingea tun-tun mukmin, janokah tobo o msoa kekuatan ngen tun kafia o? Mako sesungguak ne kekuatan o Allah tem-muan.
- الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيَّبَغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾
140. Allah bi temu-un ngen udi nak lem al-Qur'an bahwa ami udi temu-uk ayat-ayat Allah nikar ngen nolok (tun kafia) mako jibeak ba udi temot ngen tobo o sapei tobo o msoa kecek de luyen, kerno sesungguak ne kalau udi mnea awei o pasti ba udi samo ngen tobo o. Sesungguak ne Allah bakea kmopoa kute tun-tun munafik ngen tun kafia nak lem jahannam.
- وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾
141. (Yaitu) tun-tun de mot peristiwa bakea terjijai ngen dirai udi (tun-tun mukmin) mako ami terjijai bagai udi kemenangan kunei Allah tobo o madeak isokah (keme milau perang) temotoa udi? Ami tun kafia dapet kemenangan tobo o madeak : isokah keme milau menangkan udi? Dan m'bela udi kunei tun-tun mukmin, mako Allah bakea mlei keputusan nak antaro udi nak bilai kiamat dan Allah sekilai-kilai coa bakea mlei dalen magea tun-tun kafia utuk majua tun-tun berimen.
- الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾
142. Sesungguak ne tun-tun munafik o mike Allah dan Allah bakea males tobo o, ami tobo o tegok utuk sholat tobo o tegok ngen malas. Tobo o bermaksud riya nak muko manusio, coa ba tobo o madeak Allah kecuali didik sekilai.
- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾
143. Tobo o lem keadaan ragau-ragau antaro (imen ngen kafia) coa masuk moi golongan yo tun berimen coa kulo magea tun-tun kafia. Api de sensat Allah mako udi sekilai-kilai coa bakea dapet dalen utuk mlei petunjuk ngen si.
- مُذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُولَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُولَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

144. Hai tun-tun beriman, jibeak ba udi mok tun-tun kafia ijai pelindung ngen temingea tun mukmin lokkah udi made alasan de nyato bagai Allah (utuk semikso udi)?

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

145. Sesungguak ne tun-tun munafik o pnan ne nak tiket paling kabeak nak nerako. Udi sekilai-kilai coa bakea dapet petulung bagai tobo o.

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ نَّجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

146. Kecuali tun-tun de tobat ngen made perbaikan, pegong ngen agamo Allah, tulus ikhlas kemrejo agamo kerno Allah. Mako tobo o adeba samo-samo ngen tun beriman, sudo yo Allah bakea mlel tun-tun beriman pahalo de lai.

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

147. Gemne Allah bakea semikso udi, ami udi bersyukur ngen beriman? Allah Maha mensyukuri Maha Namen.

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعٰدٰٓيِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ شٰكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾